




- III Level 4
- Urdu / French
- Samrina Sana
- Wiehan de Jager
- Zulu folktale



La revanche de l'indicateur

ڙڻ ۾ ڙڻ ڦڻ ڦڻ ڦڻ

This work is licensed under a Creative Commons



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Attribution 3.0 International License.

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.

Danahy

Translated by: (ur) Samrina Sana, (fr) Alexandra

Illustrated by: Wiehan de Jager

Written by: Zulu folktale

ڙڻ ۾ ڙڻ ڦڻ ڦڻ ڦڻ ڦڻ / La revanche de l'indicateur

storybookscanada.ca

Storybooks Canada





یہ ایک شہد خور چڑیا نگیدے اور ایک لاچی آدمی گنگیلے کی کہانی ہے۔ ایک دن جب گنگیلے شکار کے لیے باہر تھا اُس نے نگیدے کی پکار سنی۔ گنگیلے کے منہ میں پانی بھر گیا جب اُس نے شہد کے بارے میں سوچا۔ وہ رُک گیا اور اُس نے غور سے سننا۔ جب تک کہ اسے اپنے سر کے اوپر موجود ٹہینیوں پہ بیٹھا پرندہ دکھائی نہیں دیا۔ چٹک۔ چٹک۔ چٹک۔ چھوٹا پرندہ چھپھایا جیسا کہ وہ اگلے اور اس سے اگلے درخت پر جا کر بیٹھا۔ چٹک۔ چٹک۔ اُس نے بلایا۔ وقتاً فوقتاً وہ اس بات کو یقینی بنارہا تھا کہ گنگیلے اُس کے پچھے ہے۔

...

Voici l'histoire de Ngede l'indicateur et un jeune homme avide nommé Gingile. Un jour, lorsqu'il chassait, Gingile entendit l'appel de Ngede. Gingile commença à saliver en pensant au miel. Il arrêta et écouta attentivement, fouillant jusqu'à ce qu'il trouve l'oiseau dans les branches au-dessus de sa tête. « Chitik-chitik-chitik, » le petit oiseau ébranla, en volant d'un arbre à l'autre. « Chitik-chitik-chitik, » il lança, arrêtant de temps en temps pour s'assurer que Gingile le suivait.

Après une heure et demie, ils atteignirent un figuier
sauvage énorme. Ngedé sautilla éperdument parmi les
branches. Il s'installa ensuite sur une branche et incrina sa
tête vers Gingile comme pour dire, « Le voici ! Viens vite !
Qu'est-ce qui te prend autant de temps ? » Gingile ne
pouvait pas voir d'aberrations du dessous de l'arbre, mais il
avait confiance en Ngedé.

...

-تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ كَذَلِكَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ
شَجَرَةِ بَيْبَانِ، كَذَلِكَ تَرَسْ -كَذَلِكَ تَرَسْ كَذَلِكَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ
بَنْزَادَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ كَذَلِكَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ
عَوْدَ كَذَلِكَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ كَذَلِكَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ، كَذَلِكَ تَرَسْ





اس لیے گنیلے نے اپنا ہتھیار درخت کے نیچے رکھ دیا اور کچھ سوکھی لکڑیاں اکھٹی کر کے آگ جلائی۔ جب آگ ٹھیک سے جل رہی تھی اُس نے ایک لمبی سوکھی لکڑی درمیان میں رکھ دی۔ یہ لکڑی جلنے پر بہت سادھوں دینے کے لیے جانی جاتی ہے۔ دوسری طرف سے لکڑی کا ٹھنڈا حصہ دانتوں میں پکڑے درخت پر چڑھنے


لگا۔

...

Alors, Gingile déposa sa lance sous l'arbre, recueilli des brindilles séchées et alluma un petit feu. Un coup que le feu brûlait bien, il mit une longue branche au cœur du feu. Ce bois était connu pour la fumée qu'il créait quand il brûlait. Gingile commença à grimper, tenant entre ses dents le bout froid de la branche qui fumait.

Bienôt il pouvait entendre le boudonnement bruyant des abeilles chargées. Elles rentraient et sortaient d'un creux dans le tronc d'arbre - leur ruché. Lorsque Gingile rejoignit la ruche il mit le bout fumant de la branche dans le creux. Les abeilles sortirent, fâchées et méchantes. Elles s'envolèrent parce qu'elles n'aimaient pas la fumée - mais pas avant d'avoir donné des piqûres douloureuses à Gingile !

1



Ainsi, quand les enfants de Gingile entendent l'histoire de Ngède ils respectent le petit oiseau. Chaque fois qu'ils recoltent du miel, ils s'assurent de laisser la plus grande partie du rayon pour l'indicateur !

•





جب مکھیاں باہر نکل گئیں، گنگلے نے اپنا ہاتھ چھتے میں ڈالا اور چھتے کے حصوں کو باہر نکالا جو کہ شہد سے بھرے ہوئے تھے اور پھر بی سے بھرے سفید گربوں کو بھی باہر نکالا۔ اس نے شہد سے بھرے چھتے کو اپنے تھیلے میں رکھا اور کندھے پر پہن لیا اور درخت سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔

...

Quand les abeilles furent sorties, Gingile enfonça ses mains dans le nid. Il sortit des poignées du nid desquelles s'écoulaient du miel riche et des larves grasses et blanches. Il mit le nid soigneusement dans la besace il portait sur son épaule et commença à descendre de l'arbre.



اس سے پہلے کہ چیتی اس پر حملہ کرتی۔ گنگلے درخت سے نیچے اتر آیا۔ جلد بازی میں اس نے ایک ٹہنی چھوڑی جس وجہ سے وہ سیدھا زمین پر آگرا اور اس کا پاؤں مڑ گیا۔ وہ تیزی سے فرار ہوا۔ خوش قسمتی سے چیتی نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کا پتیچھا نہ کر پائی۔ نگیدے، شہد خور چڑیا نے اپنا بدله لے لیا۔ اور گنگلے نے سبق سیکھ لیا۔

...

Avant que Léopard puisse s'en prendre à Gingile, ce dernier se précipita en bas de l'arbre. Dans son empressement, il manqua une branche et atterrit par terre avec un bruit sourd, tordant sa cheville. Heureusement pour lui, Léopard était encore trop endormi pour le poursuivre. Ngede, l'indicateur, eu sa revanche. Et Gingile retint sa leçon.

Ngédé regardait avec impatience tout ce que Gingile faisait. Il attendait qu'il laisse un gros morceau de nid d'abeille comme si gne de remercierement pour l'indicateur. Ngédé se percha sur une roche près du garçon et attendit sa récompense.

...


- آه، جیا و لبیا جیا، آه، کر
شکیه جیا - همچو مرد - آه، جیا جیا، آه، کر - آه
نم پس مرد - همچو مرد - آه، جیا جیا، آه، کر - آه
آه، جیا - همچو مرد، نم پس مرد، آه، کر - آه، جیا جیا، آه، کر
آه، جیا - آه، کر - آه، جیا جیا، آه، کر - آه، جیا جیا، آه، کر



Gingile grimpa, se demandant pourquoi il n'entendait pas le boudonnement habituel. « Peut-être que la ruche est très profonde dans l'arbre, » se dit-il. Il se remonta sur une autre branche. Mais au lieu de la ruche, il arriva face-à-face avec le visage d'un leopard ! Leopard était très fâché que son sommeil ait été interrompu si brusquement. Elle plissa ses yeux et ouvrit sa bouche pour révéler ses grandes dents pointues.

...

- آه، جیا، جیا، آه، کر - آه،
گل مخ بندی کر - آه، جیا - آه، جیا، جیا، آه، کر - آه
خاب جیا ل - آه، جیا - آه، جیا - آه، جیا، جیا، آه، کر - آه
آه، جیا - آه، جیا - آه، جیا، جیا، آه، کر - آه، جیا جیا، آه، کر
آه، جیا، آه، جیا، آه، کر - آه، جیا، آه، کر - آه، جیا، آه، کر





لیکن گنگیلے نے آگ بجھائی، اپنا ہتھیار اٹھایا اور گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پرندے کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ نگیدے نے غصے سے پکارا۔ وہک۔ تو را۔ وہک۔ تو را! گنگیلے رکا پرندے کو گھورا اور زور سے ہنسا۔ تمہیں شہد چاہیے؟ واقعی میرے دوست؟ آہ لیکن میں نے خود سارا کام کیا اور ڈنگ کا درد سہما۔ تو میں یہ مزیدار شہد تمہارے ساتھ کیوں بانٹوں؟ اور وہ چلا گیا۔ نگیدے شدید غصے میں تھا اسے اُس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اپنا بدلہ لے گا۔

...

Mais Gingile éteint le feu, ramassa sa lance et commença à rentrer chez lui, en ignorant l'oiseau. Ngede lança, fâché, « VIC-torr ! VIC-torr ! » Gingile arrêta, dévisagea le petit oiseau et éclata de rire. « Tu veux du miel, mon ami ? Ha ! Mais c'est moi qui ai fait tout le travail et reçu toutes les piqûres. Pourquoi est-ce que je devrais partager ce miel avec toi ? » Et il quitta. Ngede était furieux ! Cela n'était aucune manière de le traiter ! Mais il aurait sa revanche.

ایک دن کئی ہفتوں کے بعد گنگیلے نے نگیدے کی شہد کے لیے پکار سنی۔ اُسے مزیدار شہد یاد تھا، اور اُس نے تیزی سے پرندے کا پیچھا کیا۔ نگیدے کو جنگل کے کنارے پر لا کر وہ رک گیا جہاں کانٹوں کا ایک جھاڑ موجود تھا۔ آہ۔ گنگیلے نے سوچا کہ شہد کا چھتا اسی درخت میں ہو گا۔ اُس نے جلدی سے آگ جلانی اور دانتوں میں جلتی ہوئی لکڑی کو دبائے درخت پر چڑھنے لگا۔ نگیدے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔

...

Un jour, plusieurs semaines plus tard, Gingile entendit de nouveau l'appel de Ngede. Il se souvint du miel délicieux et suivit avec impatience l'oiseau une fois de plus. Après avoir mené Gingile le long de la forêt, Ngede arrêta pour se reposer dans un acacia faux-gommier. « Ahh, » pensa Gingile. « La ruche doit être dans cet arbre. » Il partit rapidement son petit feu et commença à grimper, la branche fumante entre ses dents. Ngede, assis, le regardait.